

Q.7. Translate the following Urdu paragraph into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions. (10)

ہرگز نہ ہتایا کہ جنگل کے پار ایک پہاڑ ہے جہاں وہ پھول آتا ہے جس کی خوبی سے آنکھوں کی کھوئی ہوئی روشنی لوٹ آتی ہے، مگر پہاڑ بہت بلند ہے اور اس پر ہے شادچانیں تھیں، کامنے دار جہازیاں تھیں اور جسے جسے پھر جیسی جو راستہ روک لیتے تھے۔ اس پہاڑ پر جانے کے لیے کمی لوگ آئے اور پڑپتے گئے مگر ایسا کوئی غصہ نہیں آیا جو پھول تک پہنچا ہو۔ شاید اسی لیے دنیا میں دکھ اور تکلیف ہے اور انسان روشنی کی ٹھاٹھ میں ہے۔

The old man ~~said~~ told that a mountain, where that flower grows whose fragrance brings lost eyesight back, is present across the forest. But, the mountain is so tall and has a lot of rocks, thorny bushes, and big stones which blocks the way. To approach the mountain, many people came and ~~were~~ gone, but no-one came who has reached the flower. May be, due to this reason, sorrows and pains are in the world and human is in search of light.